



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release
February 9, 2017
For immediate release

SECP and PSX start inquiry into MR Securities' fraud with investors

ISLAMABAD, February 9: The SECP has taken a serious note of fraud by MR Securities, a Lahore-based stockbroker. In order to forestall such fraudulent practices, the SECP Chairman, Zafar Hijazi, convened a meeting of PSX Board of Directors. He said that the SECP would not tolerate such activities as it was its prime responsibility to protect investor interests. He asked the PSX Board of Directors to thoroughly investigate if some of its officials were negligent in discharging their regulatory responsibilities.

The PSX has assured the SECP that it would complete the investigation into the matter by February 13, and give its report by February 14. Later a meeting between the SECP and the PSX will be held to take some decisive action. The Chairman told the PSX Board of Directors that a deterrent action has to be taken against the stockbrokers who continue to defame the market by defrauding investors and necessary measures should be put into effect. The chairman made it clear that “there is nothing dearer to my heart than investor protection, and we will take decisive action if PSX fails to shoulder its responsibility as the front line regulator.”

He expressed his disappointment with the role of auditors of stockbrokers who continue to fail in raising red flags. Instead, irregularities in brokerage houses are being identified by investigations through the joint inspection teams and SECP inspections. The SECP has directed the PSX management to immediately inform all affected investors through newspaper advertisements on how to lodge their claims with the PSX.

Meanwhile, the SECP's team of inquiry officers from the Securities Market Division that the Chairman sent to Lahore is busy in collecting and analyzing back office data of the broker's offices in Lahore, Sahiwal, Multan and Bahawalpur.

ایس ای سی پی اور پی ایس ایس ایکس نے سرمایہ کاروں کے ساتھ فراڈ کے مرتکب بروکر ایم آر سیورٹیز کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا

اسلام آباد، ۹ فروری: ایس ای سی پی نے لاہور کے بروکر کی جانب سے سرمایہ کاروں کے ساتھ فراڈ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دھوکہ دہی کے ایسے واقعات کا تدارک کرنے کے لئے ایس ای سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی نے پی ایس ایکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس طلب کیا اور کہا کہ سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اس طرح کی سرگرمیاں قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے پی ایس ایکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر زور دیا کہ معاملے کی شفاف اور فی الفور تحقیقات کی جائیں اور جائزہ لیا جائے کہ آیا پی ایس ایکس کے عہدیدار غفلت کے مرتکب تو نہیں ہوئے۔

پی ایس ایکس کے ڈائریکٹروں نے چیئرمین ایس ای سی پی کو یقین دلایا کہ اس ضمن میں حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے لئے فوری کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور اگر پی ایس ایکس کا کوئی ملازم یا فسر غفلت کا مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ پی ایس ایکس بورڈ نے ایس ای سی پی کو یقین دلایا کہ اس معاملے میں رپورٹ سوموار ۱۳ فروری تک مکمل کر لی جائے گی اور پیش رفت سے فوری طور پر ایس ای سی پی کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ جس کے بعد ایس ای سی پی اور پی ایس ایکس مل کر فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے۔

چیئرمین ایس ای سی پی نے پی ایس ایکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر واضح کیا کہ سرمایہ کاروں کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے۔ سٹاک بروکروں کی جانب سے مارکیٹ کو بدنام کرنے والی ایسی حرکات قطعاً برداشت نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں پی ایس ایکس اگر اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اعلیٰ ترین ریگولیٹر کی حیثیت سے ایس ای سی پی سخت قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا سرمایہ کاروں کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے سٹاک بروکروں کے آڈیٹروں کی جانب سے خطرے کی نشاندہی نہ کر سکنے پر بھی شدید مایوسی ظاہر کی۔

چیئرمین ایس ای سی پی نے پی ایس ایکس کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کیں کہ تمام متاثرین کو فوری طور پر اخبارات کے ذریعے مطلع کیا جائے نیز انہیں اپنے دعوے دائر کرنے کے طریق کار کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے۔

دریں اثنا ایس ای سی پی کی ٹیم متعلقہ بروکر کے لاہور، ساہیوال، ملتان اور بہاولپور میں واقع دفاتر کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے۔